

756 - رمضان المبارک کب آتا ہے اورغ#1740;رمسلم کا روزے رکھنا

سوال

ایک غیر مسلم عورت رمضان کے بارہ میں سوال کرتی ہے کہ وہ کب شروع ہوتا ہے اورکیا غیر وہ مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھ سکتی ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

رمضان المبارک کا اہتمام اورآپ کا یہ سوال کرنا کہ رمضان کب شروع ہوتا ہے اوراس کا انتظار ایک مستحسن امر ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس اسلامی عبادت سے بہت ہی زیادہ متاثر ہیں ، اورروزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں طلوع فجر سے لیکر غروب آفتاب تک کھانے پینے اورجماع سے رکا جاتا ہے -

اوررہا یہ مسئلہ کہ رمضان المبارک کب شروع ہوتا ہے ہم سوال کرنے والی سے کہیں گے کہ ہوسکتا ہے آپ کو علم ہوکہ ہم مسلمان ہیں اورہمارے تمام تعبدی شعائر اپنے وقت میں ہوتے ہیں جس کی حسی اورظاہر و ملموس اور مرئی دلیل ہوتی ہے جس میں حساب وکتاب کا کوئی دخل نہیں رمضان المبارک کے شروع ہونے کی دلیل بھی رؤیت ہلال ہے -

جب ہم چاند دیکھیں گے یا پھر مسلمانوں میں سے کوئی ثفہ شخص چاند دیکھے تو سب امت مسلمہ پر رمضان المبارک کے روزے رکھنے فرض ہوں جائیں گے اوروہ اس مہینہ کے ہر دن روزہ رکھیں گے حتی کہ شوال یعنی عیدالفطر کا چاند نظر آئے ہمیں معلوم ہوگا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوچکا ہے -

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قمری مہینہ یا تو تیس دن یا پھر انتیس یوم کا ہوتا ہے ، یہ بھی چاند کے طلوع ہونے پر منحصر ہے جوایک ملموس و مادی دلیل ہے -

لیکن سائلہ اوراسلام میں مشروع کردہ روزے کی عبادت میں رغبت رکھنے والی کو یہ جاننا چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے توصرف اس کے ہی قبول ہوتے اوراسے ہی نفع دیتے ہیں جوآپنے دین کو ترک کرکے دین اسلام میں داخل ہو ، کیونکہ اسلام ہی دین حق ہے -

اور پھر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں داخل ہونا کوئی مشکل نہیں بلکہ صرف اس کے لیے دو گواہیاں دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ، انسان جب صدق دل سے یہ کہہ لیتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے ، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی مشروع عبادت بجلائی جائے گی وہ صحیح ہے ۔

ہم فضائل سے محبت رکھنے والی سائلہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ دین اسلام قبول کر لیں تا کہ آپ کو دنیا و آخرت کی سعادت کو حصول ہو سکے ، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ایک سعادت کی زندگی بسر کریں گی اور آپ کو قوی ایمان نصیب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس دین کے سائے میں ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گی ۔

ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت دیکھ بہال فرمائے ۔

واللہ اعلم .